

## سٹی آف برامپٹن وفاقی اور صوبائی حکومت کے شراکت داروں اور سٹیٹنٹس کی جانب سے سرمایہ کاری کے اعلان کا خیرمقدم کرتا ہے

برامپٹن، آن (2 مئی 2022) – سٹی آف برامپٹن آج کیے گئے اس اعلان کا خیرمقدم کرتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مشترکہ طور پر \$1 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں تاکہ سٹیٹنٹس کو اس کے کینیڈا کے آٹو پلانٹس کو دوبارہ بحال کرنے میں مدد دی جا سکے۔ بشمول برامپٹن میں اس کی سہولت گاہ - کو الیکٹرک گاڑیاں بنانے میں مدد بھی دی جائے۔ سٹیٹنٹس اپنے بجلی کے منصوبوں پر مزید 2.4 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔

اپنے برامپٹن اسمبلی پلانٹ میں، سٹیٹنٹس ایک لچکدار اسمبلی لائن نصب کرے گا جو بیٹری الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیاں تیار کرنے کی صلاحیت سے لیس ہو گا۔ یہ اور ہال مضر صحت گیسوں کے کم اخراج والی گاڑیوں کے لیے صارفین کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے آٹومیٹرک کی صلاحیت کو متنوع بنائے گا۔ اونٹاریو کا \$132 ملین تک کی سرمایہ کاری کرنے کا عزم برامپٹن میں سہولت گاہ کے طویل مدتی مستقبل کو محفوظ بنانے میں مدد کرے گا۔

برامپٹن میں سٹیٹنٹس کی سہولت گاہ برامپٹن کی آٹوموٹو انڈسٹری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور مقامی معیشت پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ تقریباً 3,000 مینوفیکچرنگ ملازمتیں فراہم کرتی ہے۔ یہ صوبے بھر میں بہت سی بالواسطہ ملازمتیں بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ آٹوموٹو کی سہولت گاہ کی ہر ایک ملازمت کے لیے، زیادہ سے زیادہ پانچ سے چھ بالواسطہ ملازمتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔

برامپٹن کا ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہر صنعت میں تعاون، شراکت اور اختراع کی بنیاد ہے۔ یہ روزگار کے لحاظ سے برامپٹن کی سب سے بڑی صنعت ہے، جو شہر کی افرادی قوت کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ ہے۔ برامپٹن کے ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے کی 23 فیصد افرادی قوت آٹوموٹو انڈسٹری میں کام کرتی ہے۔

برامپٹن کی آٹوموٹو انڈسٹری اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں: [www.investbrampton.ca](http://www.investbrampton.ca)

### فوری حقائق:

- پچھلے ہفتے، سٹی آف برامپٹن نے برامپٹن کی آٹوموٹو انڈسٹری کی اہمیت پر بات چیت کرنے اور حکومت کی تمام سطحوں کی جانب سے سٹیٹنٹس برامپٹن اسمبلی پلانٹ میں سرمایہ کاری کی ضرورت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے حوالے سے [برامپٹن آٹوموٹو فورم](#) کی میزبانی کی۔ اس فورم میں برامپٹن سٹی کونسل کے اراکین، اقتصادی ترقی کے عملے، وزراء، مقامی MPs اور MPPs نے شرکت کی، جنہوں نے برامپٹن کی آٹو موٹو انڈسٹری کے مستقبل اور اونٹاریو اور کینیڈا کی آٹو موٹو انڈسٹریز کے وسیع تر تناظر پر تبادلہ خیال کیا۔
- برامپٹن کی سٹیٹنٹس سہولت گاہ اپنے عالمی آپریشنز میں وہ واحد پلانٹ ہے جو ڈاج چارجرز، ڈاج چیلنجرز اور کریسلر 300s تیار کرتی ہے۔
- برامپٹن میں بنی ہوئی 90 فیصد سے زیادہ کاریں برآمد کی جاتی ہیں جن کی اکثریت امریکہ کو جاتی ہے۔
- برامپٹن میں آٹوموٹو پارٹس مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں کئی بڑی کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن میں میگنا، مارٹنریا، ABC ٹیکنالوجیز اور بہت سی دیگر کمپنیوں کی ملکیتی سہولت گاہیں شامل ہیں۔

### اقتباسات

"برامپٹن کی آٹو موٹو صنعت میں شاندار کارکردگی کی ایک قابل فخر تاریخ ہے جو ہماری سٹیٹنٹس سہولت گاہ اور ایک بڑے اور جدید مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ذریعے اپنے پاؤں جمائے ہوئے ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا شہر الیکٹریک گاڑیوں پر منتقل ہونے کے حوالے سے عالمی آٹو موٹو انڈسٹری کی تبدیلی کا حصہ بنے گا اور ہم اس مشترکہ سرمایہ کاری کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سٹیٹنٹس میں اپنے قابل قدر شراکت داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ برامپٹن، ہماری مقامی افرادی قوت اور ہماری آٹو موٹو انڈسٹری کا ایک مستقبل روشن ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کا جدید ترین مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہماری کمیونٹی کی تمام صنعتوں میں باہمی تعاون، شراکت داری اور اختراع کی بنیاد پر قائم ہے، جو روزگار پیدا کرنے کے لحاظ سے ہمارے شہر کی سب سے بڑی صنعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج اعلان کردہ سرمایہ کاری کے لیے ہمارے حکومتی شراکت داروں اور سٹیٹنٹس کا شکریہ اور ہمارے اقتصادی ترقی کے بلند حوصلہ عملے کا بھی شکریہ جنہوں نے اس سرمایہ کاری کی ضرورت کے بارے میں بیداری پیدا کی۔ اس سے ہماری پوری کمیونٹی کو فائدہ پہنچے گا اور مواقع کے ایک شہر کے طور پر، برامپٹن آٹو موٹو انڈسٹری کو گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے میں ایک رہنما بننے کے لیے پرجوش ہے۔"

مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ جیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن جدت اور جدید مینوفیکچرنگ میں ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم آج کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں جو سٹیٹنٹس کو برامپٹن کی اپنی سہولت گاہ کو دوبارہ کھولنے کے قابل بنائے گا۔ نہ صرف یہ کہ گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے کے عمل کی طرف بڑھنے سے ہماری مقامی معیشت کو فائدہ پہنچے گا بلکہ یہ برامپٹن کو آٹو موٹو انڈسٹری کے مستقبل میں سب سے آگے رہنے کے قابل بھی بنائے گا۔"

- پال ویسیٹے، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس سٹیٹنٹس - ہماری مقامی آٹو موٹو انڈسٹری کے ایک مضبوط سہارے - کی حمایت جاری رکھنے کا منتظر ہے کیونکہ وہ الیکٹریک گاڑیاں بنانے کے لیے اپنی برامپٹن کی سہولت گاہ کو دوبارہ چلا رہے ہیں۔ برامپٹن حکمت عملی سے آگے کی سوچ رکھنے والے جدید مینوفیکچرنگ سیکٹر کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور اپنی اعلیٰ معیار کی افرادی قوت اور ایوارڈ یافتہ مینوفیکچرنگ کے ساتھ، ہم آٹو موٹو انڈسٹری کے مستقبل کا حصہ بننے کے لیے ایک بہترین مقام فراہم کرتے ہیں۔"

- کلیئر بارنیٹ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن

"آج کا اعلان ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ یونین، حکومتیں اور صنعت آٹو موٹو مینوفیکچرنگ کی ملازمتوں کے تحفظ اور کینیڈا کے مینوفیکچرنگ کے شعبے کو مضبوط رکھنے کے لیے اکٹھے ہوں۔ برامپٹن اسمبلی پلانٹ کے محنتی اور خدمت سے سرشار لوگ اپنی کلاس میں کچھ اعلیٰ معیار کی، سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑیاں بنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب، ہمیں آنے والے سالوں میں کینیڈا کی الیکٹریک گاڑیوں پر منتقلی میں اہم کردار ادا کرنے پر بھی فخر ہو سکتا ہے"

- ڈینی پرائس، پریزیڈنٹ یونیور لوکل 1285

"یہ سرمایہ کاری سٹیٹنٹس کے برامپٹن کے ساتھ مضبوط عزم کی دوبارہ تصدیق کرتی ہے۔ مقامی سپلائرز اور ملازمین کے لیے، اس سرمایہ کاری کے بڑے اور مثبت اثرات ہماری کمیونٹی کے مستقبل کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔"

- ٹوڈ کائل، چیف ایگزیکٹو آفیسر، برامپٹن نورڈ آف ٹریڈ

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)